

برائے فوری اجراء

ڈرائیو ویز کے نئے قواعد 2 جولائی سے نافذ العمل ہو رہے ہیں

برامپٹن، آن (10 جون 2019) - اس موسم گرما کے دوران اپنی ڈرائیو وے پر کوئی کام کروانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ گھروں کے تمام مالکان اور ان کی جانب سے کام کرنے والے ایسے تمام ٹھیکیداروں، جو ڈرائیو وے کی کشادگی، تبدیلی یا دوبارہ ڈالنے کے کام کر رہے ہیں، ان پر بہت جلد نئے قواعد لاگو ہو رہے ہیں۔

کیا تبدیلی آ رہی ہے؟

برائے قواعد و ضوابط کے مطابق اگر گھروں کے مالکان کناروں کو کاٹ کر ڈرائیو وے کو کشادہ کرنا چاہتے تھے، تو تب انہیں ایک پرمٹ کی ضرورت ہوتی تھی۔ مگر اب 2 جولائی 2019 سے ڈرائیو وے پر کیے جانے والے زیادہ تر کاموں کے لیے پرمٹ کی ضرورت ہو گی تاکہ سٹی کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔

ڈرائیو وے پرمٹ کے لیے درخواست دینے کی فیس \$50 ہو گی۔ پرمٹ میں درج ذیل چیزیں شامل ہوں گی:

- کنارے کی کسی قسم کی کٹائی (اگر ممکن ہو)
- میونسپل روڈ پر کسی قسم کا کیا جانے والا کام
- ذاتی پراپرٹی کے ساتھ ڈرائیو وے کو سیدھ میں لانے کے کام کی اجازت

پرمٹ کا نیا فارم سٹی کی ویب سائٹ پر 15 جون سے دستیاب ہو گا۔ سٹی کو پرمٹ کی درخواست دینے والے شخص کو ایک پرمٹ فارم، ایک لیگل سروے اور پراپرٹی کی سمتوں کا تعین کرنے والا ایک ایسا سائٹ پلان بھی جمع کروانا ہو گا جس میں ڈرائیو وے، اس کے کنارے اور فرش کی دیگر سطحیں بشمول پیدل چلنے کے راستے اور صحن بھی شامل ہونے چاہیں۔

ٹھیکیداروں کے لیے نئے قواعد

برامپٹن میں پتھر یا اینٹیں وغیرہ دبانے کا کام کرنے والے ٹھیکیداروں کو سٹی آف برامپٹن کی جانب سے لازمی طور پر لائسنس یافتہ ہونا چاہیے۔ مورخہ 2 جولائی 2019 کے بعد کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے انہیں لازماً یہ یقین دہانی کر لینی چاہیے کہ ڈرائیو وے پرمٹ حاصل کر لیا گیا ہو اور اس پرمٹ اور سٹی کے ضمنی قوانین کی پابندی بھی لازمی کرنی چاہیے۔

اگر کوئی لائسنس یافتہ ٹھیکیدار ضروری پرمٹ کے بغیر کوئی کام کرے گا یا سٹی کے کسی ضمنی قانون کی خلاف ورزی کرے گا، تو سٹی اس کا لائسنس منسوخ کر سکتا ہے اور ان کے خلاف بزنس لائسنسنگ بائی لاز کے مطابق کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔

سٹی آف برامپٹن کی جانب سے ڈرائیو وے پر پتھر یا اینٹیں وغیرہ دبانے والے تمام لائسنس یافتہ ٹھیکیداروں کے نام اور رابطہ معلومات 15 جون سے سٹی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔ جس سے رہائشیوں کو یہ یقین دہانی کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ وہ واقعی ایک لائسنس یافتہ ٹھیکیدار کو ہی استعمال کر رہے ہیں۔

ایک ڈرائیو وے کتنی چوڑی ہو سکتی ہے؟

ڈرائیو وے کی زیادہ سے زیادہ اجازت شدہ چوڑائی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ یہ لاٹ کی چوڑائی پر منحصر ہے (جیسے زوننگ کے ضمنی قوانین میں تعریف کی گئی ہے) اور اس میں ہر قسم کے پیدل چلنے کے راستے اور دیگر پختہ سطحیں شامل ہیں جو ڈرائیو وے کے متوازی ہوتی ہیں اور ان پر گاڑی کھڑی کی جا سکتی ہے۔

پراپرٹی سے مناسب نکاسی آب کو یقینی بنانے کے لیے ڈرائیو وے اور سائیڈ لائٹ لائن کے درمیان کم از کم 0.6 میٹر (2 فٹ) چوڑی کچی جگہ (مثلاً گھاس، باغیچہ، پھولوں کی کیاریاں) کا موجود ہونا لازمی ہے جہاں سے پانی زمین میں جذب ہو سکے۔ سنگل ڈیٹیلڈ گھروں کی دونوں اطراف میں یہ کچی جگہ موجود ہونی لازمی ہے جبکہ سیمی ڈیٹیلڈ گھروں اور ٹاؤن ہاؤسز کی ایک طرف اس طرح کی کچی جگہ کا موجود ہونا لازمی ہے جہاں سے پانی زمین میں جذب ہو سکے۔

ڈرائیو وے کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی (میٹر)	لاٹ کی چوڑائی (میٹر)
4.9	8.23 میٹر سے کم
5.2	8.23 سے زیادہ مگر 9.14 سے کم
6.71	9.14 سے زیادہ مگر 15.24 سے کم
7.32	15.24 سے زیادہ مگر 18.3 سے کم
9.14	18.3 سال سے زیادہ

بے قاعدہ، مخروطی شکل یا کارنر لائٹس کے مالکان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی ڈرائیو وے کی چوڑائی کے بارے میں جاننے کے لیے سٹی کے زوننگ ڈویژن کو 905.874.2090 پر کال کریں۔

ڈرائیو ویز کے نئے قواعد کی منظوری سٹی کونسل نے اپنی 22 مئی کی میٹنگ میں دی تھی۔ سٹی گھروں کے مالکان اور ٹھیکیداروں سے پرمٹ کی درخواستیں وصول کرنے کا آغاز 15 جون سے کرے گا۔ مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/roadworks ملاحظہ کریں۔

اقتباس

"برامپٹن کے رہائشی ہونے کے طور پر ہم سب ایک پرکشش اور دلکش پڑوس میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے فرنٹ یارڈز جو مکمل طور پر ڈرائیو وے پر محیط ہوں، وہ نہ صرف بھدے نظر آتے ہیں بلکہ وہ ماحول کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ جس کی وجہ سے پودوں اور درختوں کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہے اور ہمارے نکاسی آب کے مقامی نالوں میں زیادہ ماحول دشمن مواد بہ کر شامل ہو جاتا ہے۔ ان نئے قواعد کی مدد سے ہم نہ صرف رہائشیوں کی پارکنگ کی ضروریات میں مدد کر سکیں گے بلکہ برامپٹن کو ایک سرسبز و شاداب شہر بنانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca